

## NDIS حقائق نامہ:

# خدمات کے معاہدے

اردو | Urdu

ہمارا خدمات کا معاہدہ رجسٹرڈ فراہم کنندگان کے لیے NDIA کی کاروباری شرائط اور NDIS کمیشن کے طے کردہ پریکٹس کرنے کے معیاروں کی تعمیل کرتا ہے۔



خدمات کے معاہدے سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے جو NextSense اور آپ (کلائنٹ) کے مابین طے پاتا ہے، جس میں آپ کو NDIS پلان کے تحت معاونتیں فراہم کی جاتی ہیں۔



### کلیدی نقاط

- ✓ خدمات کے معاہدے کی تیاری آپ (کلائنٹ)، کسی اور شخص (جیسے نگہداشت فراہم کرنے والا شخص، والدہ یا نامزد شخص) اور NextSense کے درمیان باہمی تعاون کا ایک عمل ہے۔
- ✓ خدمات کے معاہدے اور NDIS پلان کی تاریخوں اور اہداف کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ براہ مہربانی نوٹ فرمائیں: ایک نئے پلان کے لئے خدمات کا ایک نیا معاہدہ درکار ہوتا ہے۔
- ✓ یہ آپ (کلائنٹ) پر منحصر ہے کہ آیا آپ کے NDIS پلان کی ایک نقل NextSense کو فراہم کی جائے۔

### ہمیں اس کی کیوں ضرورت ہے؟

آپ کے لئے:

خدمات کا معاہدہ اس بارے میں متفقہ توقعات کی موجودگی کو یقینی بناتا ہے کہ کس طرح کی معاونتیں فراہم کی جائیں گی اور یہ معاونتیں کیسے فراہم کی جائیں گی۔

ہمارے لئے:

خدمات کے معاہدے اس بات کے لئے ضروری ہیں کہ NextSense اپنی فراہم کردہ خدمات کی ادائیگیاں وصول کرسکے۔

### آپ سے ہمارا وعدہ۔ ہم:

خدمات فراہم کنندہ کے طور پر ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کی تفصیلات معاہدے میں فراہم کی گئی ہیں۔

اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ اور NextSense کے مابین NDIS پلان ادائیگیوں کا انتظام کیسے کیا جائے گا۔



آپ کو خدمات کے معاہدے کی تفصیلات بتائیں گے، بشمول یہ کہ آپ کے NDIS پلان کے معاونتی بجٹ کے تحت کیا فراہم کیا جائے گا اور پرائس گائیڈ کے مطابق خدمات کے ریٹس۔



اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ خدمات کی فراہمی سے قبل آپ اور NextSense کے عملے کی جانب سے معاہدے پر دستخط کر دیئے گئے ہیں \ معاہدے کی منظوری دی جا چکی ہے۔



آپ کو بتائیں گے کہ کوئی سوالات یا تشویش ہونے کی صورت میں آپ کو کس سے رابطہ کرنا چاہئے۔



مزید معلومات کے لئے ہم سے رابطہ کریں:

